

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
 وَنُنزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِّنُحْيِيَ الْبَشَرِیْنَ وَنَجْعَلُ لَهَا رِزْقًا فَتَأْكُلُ
 مِنْهُ حَبْلًا مَّوْسًا

قرآن پاک کی معنوی تحریف اور فرقہ وادیت کی نحوست سے محفوظ اُردو ترجمہ



عربی لغت کے عین مطابق بیک وقت لفظی اور باحاورہ آسان ترین اُردو ترجمہ

ترجمہ
 پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ علیہ

ضیاء امت آسان پبلی کیشنز
 لاہور - کراچی
 پاکستان

سُورَةُ الْمُؤْمِنُونَ
۲۳ مَكِّيَّةٌ بِآيَاتِهَا ۴۰

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

آيَاتُهَا
۱۱۸

سورہ المؤمنون کی ہے اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت ہی مہربان، ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ اس کی ۱۱۸ آیتیں اور ۶ رکوع ہیں

قَدِ افْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ۱ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَشِعُونَ ۲

بیشک دونوں جہان میں بامراد ہو گئے ایمان والے وہ ایمان والے جو اپنی نماز میں عجز و نیاز کرتے ہیں

وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ ۳ وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ

اور وہ جو ہر بیہودہ امر سے منہ پھیرے ہوتے ہیں۔ اور وہ جو زکوٰۃ

فَعَلُونَ ۴ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَفْزُجِهِمْ حَفِظُونَ ۵ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ

ادا کرتے ہیں اور وہ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں بجز اپنی بیویوں کے

أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ۶ فَمَنْ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ

اور ان کینروں کے جو ان کی ملکیت میں تو بیشک انہیں ملامت نہ کی جائے گی۔ اور جس نے خواہش کی

ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ ۷ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمْتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ

ان دو کے ماسوا تو یہی لوگ حد سے بہت زیادہ تجاوز کرنے والے ہیں۔ نیز وہ (مومن بامراد ہیں) جو اپنی امانتوں اور اپنے وعدوں کی

رَاعُونَ ۸ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ۹ أُولَٰئِكَ هُمُ

پاسداری کرنے والے ہیں اور وہ جو اپنی نمازوں کی پوری حفاظت کرتے ہیں۔ یہی لوگ

الْوَارِثُونَ ۱۰ الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ۱۱ وَ

وارث ہیں جو وارث بنیں گے فردوس (بریں) کے؛ وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّنْ طِينٍ ۱۲ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نَظْفًا

بیشک ہم نے پیدا کیا انسان کو مٹی کے جو ہر سے۔ پھر ہم نے رکھا اسے پانی کی بوند بنا کر

فِي قَدَرٍ مَّكِينٍ ۱۳ ثُمَّ خَلَقْنَا النَّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ

ایک محفوظ مقام میں، پھر ہم نے بنا دیا نطفہ کو خون کا لوتھڑا پھر ہم نے بنا دیا اس لوتھڑے کو

مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظْمًا فَكَسَوْنَا الْعِظْمَ لَحْمًا ۱۴ ثُمَّ

گوشت کی بوٹی پھر ہم نے پیدا کر دیں اس بوٹی سے ہڈیاں پھر ہم نے پہنایا ان ہڈیوں کو گوشت پھر

أَنشأناه خلقًا آخرًا فَبَارَكُ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ۱۵ ثُمَّ أَنشأكم

(روح پھونک) کر ہم نے اسے دوسری مخلوق بنا دیا، پس بڑا بابرکت ہے اللہ جو سب سے بہتر بنانے والا ہے۔ پھر یقیناً تم

بَعْدَ ذَلِكَ لَنَسْأَلُنَّ^ط ۱۵ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تُبْعَثُونَ ۱۶ وَلَقَدْ

ان مرحلوں سے گزرنے کے بعد مرنے والے ہو۔ پھر بلاشبہ تمہیں روز قیامت (قبروں سے) اٹھایا جائے گا۔ اور بے شک

خَلَقْنَا قَوْمَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ ۱۷ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَفِيلِينَ ۱۸ وَ

ہم نے تمہارے اوپر سات راستے بنا دیئے اور ہم اپنی مخلوق (کی مصلحتوں) سے بے خبر نہ تھے۔ اور

أَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَتْهُ فِي الْأَرْضِ ۱۹ وَإِنَّا عَلَى

ہم نے اتارا آسمان سے پانی اندازہ کے مطابق پھر ہم نے ٹھہرا لیا اسے زمین میں اور یقیناً ہم اسے

ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ ۲۰ فَأَنْشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَدَّتٍ مِّنْ نَّخِيلٍ

بالکل ناپید کرنے پر پوری طرح قادر ہیں۔ پھر ہم نے اگائے تمہارے لئے اس پانی سے باغات کھجوروں

وَأَعْنَابٍ لَّكُمْ فِيهَا فَاوَاكُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ۲۱ وَشَجَرَةً تُخْرَجُ

اور انگوروں کے؛ تمہارے لئے ان میں بہت سے پھل ہیں اور ان میں سے تم کھاتے بھی ہو نیز پیدا کیا ایک درخت جو اگتا ہے

مِنْ طُورٍ سَيْنَاءَ تَنْبُتُ بِالذَّهْنِ وَصَبِغٍ لِللَّاكِلِينَ ۲۲ وَإِنَّ لَكُمْ

طور سینا میں وہ اگتا ہے تیل لئے ہوئے اور سالن لئے ہوئے کھانے والوں کے لئے۔ اور بیشک تمہارے

فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةٌ لَّسُقِيَّكُمْ فَمَا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ

لئے جانوروں میں بھی غور و فکر کا مقام ہے؛ ہم پلاتے ہیں تمہیں اس (دودھ) سے جو ان کے شکموں میں ہے اور تمہارے لئے ان میں طرح طرح

كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ۲۳ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ ۲۴ وَلَقَدْ

کے بہت فائدے ہیں اور انہیں (کے گوشت) سے تم کھاتے ہو۔ اور ان پر اور کشتیوں پر تمہیں سوار کیا جاتا ہے۔ اور

أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنِّ

ہم نے بھیجا نوح (علیہ السلام) کو ان کی قوم کی طرف تو آپ نے فرمایا: اے میری قوم! اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، نہیں ہے تمہارا

إِلَهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ ۲۵ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَوْمِ

کوئی خدا اس کے بغیر؛ کیا تم (بت پرستی کے انجام سے) نہیں ڈرتے۔ تو کہنے لگے وہ سردار جنہوں نے کفر اختیار کیا تھا ان کی قوم

مَاهَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يَرِيدُ أَنْ يَتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ

سے کہ نہیں ہے یہ مگر بشر تمہارے جیسا یہ چاہتا ہے کہ اپنی بزرگی جملائے تم پر؛ اور اگر اللہ تعالیٰ (رسول بھیجتا) چاہتا

لَأَنْزَلَ مَلَائِكَةً مَّا سَعْنَا بِهَذَا فِي آيَاتِنَا الْأُولَىٰ ۲۶ وَإِنْ

تو وہ اتارتا فرشتوں کو ہم نے نہیں سنی یہ بات (جو نوح کہتا ہے) اپنے پہلے آباء و اجداد میں۔ نہیں ہے

وقف لائق

۴۱۲

هُوَ إِلَّا رَجُلٌ بِهٖ جَنَّةٌ فَتَرَبَّصُوا بِهٖ حَتَّىٰ حِينٍ ۚ قَالَ رَبِّ

یہ مگر ایسا شخص جسے جنوں کا مرض ہو گیا ہے سو انتظار کرو اس کے انجام کا کچھ عرصہ۔ آپ نے عرض کی اے رب!

انصُرْنِي بِسَاكِدَّيْنِ ۚ فَاَوْحَيْنَا اِلَيْهٖ اَنْ اصْنَعْ الْفُلْكَ بِاَعْيُنِنَا

(اب) تو ہی میری مدد فرما کیونکہ انہوں نے مجھ جھٹلایا ہے۔ تو ہم نے وحی بھیجی ان کی طرف کہ بناؤ ایک کشتی ہماری نگاہوں کے سامنے

وَوَحَيْنَا فَاِذَا جَاءَ اَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُوْرُ فَاسْلُكْ فِيهَا مِنْ كُلِّ

اور ہمارے علم کے مطابق پھر جب آجائے ہمارا عذاب اور (پانی) اہل پڑے تنور سے تو داخل کرلو اس میں ہر

زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ ۚ وَاَهْلَكَ اِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْهُمْ ۗ

جوڑے میں سے دو دو اور اپنے گھر والوں کو بجز ان کے جن کے بارے میں پہلے فیصلہ ہو چکا ہے ان میں سے،

وَلَا تُخَاطَبُنِي فِي الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا اِنَّهُمْ مُّعْرِضُوْنَ ۗ فَاِذَا اسْتَوَيْتَ

اور گفتگو نہ کرنا میرے ساتھ ان کے متعلق جنہوں نے ظلم کیا، وہ تو ضرور غرق کئے جائیں گے۔ پھر جب اچھی طرح بیٹھ جائیں

اَنْتَ وَمَنْ مَّعَكَ عَلٰى الْفُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ نَجَّيْنَا

آپ اور آپ کے ساتھی کشتی کے عرشہ پر تو کہنا سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لئے جس نے ہمیں نجات دی

مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِيْنَ ۗ وَقُلْ رَبِّ اَنْزِلْنِيْ مُنْزَلًا مُّبْرَكًا وَاَنْتَ

ظالم قوم (کے جو رو تم) سے۔ اور یہ بھی عرض کرنا کہ اے میرے رب! اتار مجھے بابرکت منزل پر اور تو ہی

خَيْرُ الْمُنْزِلِيْنَ ۗ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّرٰنٍ كُنَّا لَبٰتِلِيْنَ ۗ ثُمَّ

سب سے بہتر اتارنے والا ہے۔ بے شک اس قصہ میں ہماری قدرت کی نشانیاں ہیں اور ہم ضرور (اپنے بندوں کو) آزمانے والے ہیں۔ پھر

اَنْشَاْنَا مِنْۢ بَعْدِهِمْ قَرْبًا اٰخَرِيْنَ ۗ فَاَرْسَلْنَا فِيْهِمْ رَسُوْلًا مِّنْهُمْ

ہم نے پیدا فرما دی ان کے (غرق ہونے کے) بعد ایک دوسری جماعت۔ پھر ہم نے بھیجا ان میں ایک رسول ان میں سے (اس نے انہیں کہا)

اَنْ اَعْبُدُوْا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ ۗ اَفَلَا تَتَّقُوْنَ ۗ وَقَالَ

کہ عبادت کرو اللہ کی، نہیں ہے تمہارا کوئی خدا اس کے سوا؛ کیا تم (شرک کے انجاسے) نہیں ڈرتے ہو؟ اور بولے

السَّلَامُ مِنْ قَوْمِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَكَذَّبُوْا بِلِقَاءِ الْاٰخِرَةِ وَاتَّرَفْنَاهُمْ

ان کی قوم کے سردار جنہوں نے کفر کیا تھا اور جنہوں نے جھٹلایا تھا قیامت کی حاضری کو اور ہم نے خوشحال بنا دیا تھا

فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا مَا هٰذَا اِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يَأْكُلُ مِمَّا تَاْكُلُوْنَ

انہیں دنیوی زندگی میں (اسے لوگو!) نہیں ہے یہ مگر ایک بشر تمہاری مانند یہ کھاتا ہے وہی خوراک جو تم کھاتے ہو

مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ ﴿۳۳﴾ وَلَئِنْ اطَّعْتُمْ بَشْرًا مِثْلَكُمْ لَأَكُنَّ

اور پیتا ہے اس سے جو تم پیتے ہو اور اگر تم پیروی کرنے لگے اپنے جیسے بشر کی تو تم

إِذَا الْخَسِرُونَ ﴿۳۴﴾ أَيْعِدُكُمْ أَنْكُمْ إِذَا مِتُّمْ وَكُنْتُمْ تُرَابًا وَعِظَامًا أَنْكُمْ

تب نقصان اٹھانے والے ہو جاؤ گے کیا وہ تم سے یہ وعدہ کرتا ہے کہ تم جب مر جاؤ گے اور مٹی اور ہڈیاں ہو جاؤ گے تو تمہیں

تُخْرِجُونَ ﴿۳۵﴾ هِيَ هَاتِ هِيَ هَاتِ لِمَا تُوْعَدُونَ ﴿۳۶﴾ إِنَّ هِيَ الْأَحْيَاءُ تَأْتِنَا

(پھر قبروں سے) نکالا جائے گا، یہ بات عقل سے بعید ہے بالکل بعید جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے، نہیں ہے کوئی اور زندگی سوائے ہماری اس

الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ ﴿۳۷﴾ إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلٌ

دنوی زندگی کے، یہی ہمارا مرنا ہے اور یہی ہمارا جینا اور ہمیں دوبارہ نہیں اٹھایا جائے گا، وہ نہیں مگر ایسا شخص

اِفْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا وَمَا نَحْنُ لَهُ بِمُؤْمِنِينَ ﴿۳۸﴾ قَالَ رَبِّ

جس نے بہتان لگایا ہے اللہ تعالیٰ پر جھوٹا اور ہم تو قطعاً اس پر ایمان نہیں لائیں گے۔ اس پیغمبر نے کہا: میرے رب!

انصُرْنِي بِمَا كَذَّبُونَ ﴿۳۹﴾ قَالَ عَمَّا قَلِيلٍ لَيُصْبِحُنَّ نَدِيمِينَ ﴿۴۰﴾

اب تو میری مدد فرما کیونکہ انہوں نے تو مجھے جھٹلادیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: عنقریب ہی یہ لوگ اپنے کئے پر نادم ہو جائیں گے۔

فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ بِالْحَقِّ فَجَعَلْنَاهُمْ غُرَابًا فَبِئْسَ الْفُقَرَاءُ

تو آپکڑا انہیں حقیقی چنگھاڑ نے تو ہم نے انہیں خس و خاشاک بنا دیا، تو برباد ہو جائے وہ قوم

الظَّالِمِينَ ﴿۴۱﴾ ثُمَّ أَنشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قُرُونًا آخَرِينَ ﴿۴۲﴾ مَا تَسْبِقُ

جو ستم شعار ہے۔ پھر ہم نے پیدا فرمائیں ان (کی بربادی) کے بعد کئی قومیں۔ آگے نہیں بڑھ سکتی

مِنْ أُمَّةٍ أَجْلَهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ ﴿۴۳﴾ ثُمَّ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تَتْرًا كُلَّمَا

کوئی قوم اپنی مقررہ میعاد سے اور نہ وہ لوگ پیچھے رہ سکتے ہیں۔ پھر ہم بھیجتے رہے اپنے رسول کے بعد دیگرے؛ جب کبھی

جَاءَ أُمَّةٌ رُسُلُهُمْ كَذَّبُوهُ فَاتَّبَعْنَا بِعَصْفِهِمْ بَعْضًا وَجَعَلْنَاهُمْ

کسی امت کے پاس اس کا رسول آیا تو انہوں نے اسے جھٹلایا پس ہم بھی ایک کے بعد دوسرے کو ہلاک کرتے گئے اور ہم نے (ان جابر)

أَحَادِيثَ فَبِئْسَ الْفُقَرَاءُ الْقَوْمَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿۴۴﴾ ثُمَّ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ وَأَخَاهُ

قوموں کو افسانے بنا دیا، پس خدا کی پھٹکار ہو ایسی قوم پر جو ایمان نہیں لاتی۔ پھر ہم نے بھیجا موسیٰ اور ان کے بھائی

هَارُونَ هَٰذَا بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِكُمْ أَنْ لَا تُعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ ۚ إِنَّكُمْ لَعِندَ رَبِّكُم

ہارون کو اپنی نشانیاں اور واضح دلیل دے کر فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف

فَأَسْتَكْبِرُوا وَكَانُوا قَوْمًا عَالِينَ ﴿۳۶﴾ فَقَالُوا أَنْوَمُنْ لِبَشَرَيْنِ

تو انہوں نے بھی غرور و تکبر کیا اور وہ لوگ بڑے سرکش تھے - تو انہوں نے کہا: کیا ہم ایمان لے آئیں ان دو آدمیوں پر

مِثْلِنَا وَقَوْمُهُمَا لَنَا عِدْوَانٌ ﴿۳۷﴾ فَكَذَّبُوهُمَا فَكَانُوا مِنْ

جو ہماری مانند ہیں حالانکہ ان کی قوم ہماری غلام ہے پس انہوں نے ان دونوں کو جھٹلایا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ بھی برباد

الْمُهْلِكِينَ ﴿۳۸﴾ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ ﴿۳۹﴾

ہونے والوں میں شامل ہو گئے - اور بیشک ہم نے عطا فرمائی موسیٰ کو کتاب تاکہ (ان کی) قوم ہدایت یافتہ ہو جائے -

وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً وَآدَيْنَاهُمَا إِلَى رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ

اور ہم نے بنادیا مریم کے فرزند اور اس کی ماں (مریم) کو (اپنی قدرت کی) نشانی اور انہیں بسایا ایک بلند مقام پر جو رہائش کے قابل تھا

وَمَعِينٍ ﴿۴۰﴾ يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُّوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا

اور جہاں چشمے جاری تھے - اے (میرے) پیغمبرو! پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور اچھے کام کرو؛

إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿۴۱﴾ وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا

بیشک میں جو اعمال تم کر رہے ہوں ان سے خوب واقف ہوں - اور یہی تمہارا دین ہے (اور) وہ ایک ہی ہے اور میں تم سب کا پروردگار ہوں

رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ ﴿۴۲﴾ فَتَقَطَّعُوا أَرْهَامَ بَيْنَهُمْ زَبْرًا كُلٌّ حِزْبٍ بِمَا

سو تم ڈرا کرو مجھ سے - لیکن کاٹ کر بنادیا انہوں نے اپنی دینی وحدت کو باہمی اختلاف سے پارہ پارہ؛ ہر کردہ اپنے

لَدَيْهِمْ فَرَحُونَ ﴿۴۳﴾ فَذَرَهُمْ فِي غَتَرِهِمْ حَتَّىٰ حِينٍ أَيْحَسِبُونَ

نظریات پر مسرور ہے - پس (اے محبوب!) رہنے دو انہیں اپنی مدھوشی میں کچھ وقت تک - کیا یہ تفرقہ باز خیال کرتے ہیں

أَتَمَانِيْدُهُمْ بِهِ مِنْ مَّالٍ وَبَيْنِينَ ﴿۴۴﴾ نَسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ

کہ ہم جو ان کی مدد کر رہے ہیں مال و اولاد کی کثرت سے، تو ہم جلدی کر رہے ہیں انہیں بھلائیاں پہنچانے میں؛

بَلْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿۴۵﴾ إِنَّ الَّذِينَ هُمْ مِنْ خَشْيَةِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ

(یوں نہیں) بلکہ وہ (حقیقت حال سے) بے خبر ہیں - بے شک وہ لوگ جو اپنے رب کے خوف سے ڈر رہے ہیں

وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ ﴿۴۶﴾ وَالَّذِينَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لَا

اور وہ جو اپنے رب کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں اور وہ جو اپنے رب کے ساتھ (کسی کو)

يُشْرِكُونَ ﴿۴۷﴾ وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجَلَةٌ أَنَّهُمْ

شریک نہیں بناتے اور وہ جو دیتے ہیں جو کچھ دیتے ہیں اس حال میں کہ ان کے دل ڈر رہے ہوتے ہیں (اس خیال سے) کہ وہ

فَخَرَجَ بِكَ خَيْرٌ مِّنْكَ وَهُوَ خَيْرُ الرَّزِقِينَ ﴿۴۲﴾ وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ

(آپ کے لئے) تو آپ کے رب کی عطا بہتر ہے اور وہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ اور بیشک آپ تو انہیں بلاتے ہیں

إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿۴۳﴾ وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ

سیدھی راہ کی طرف - بلاشبہ وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے آخرت

الصِّرَاطِ لَنُكَيِّبُونَ ﴿۴۴﴾ وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِم مِّنْ ضُرٍّ

پر وہ راہ راست سے منحرف ہونے والے ہیں۔ اور اگر ہم ان پر مہربانی بھی فرمائیں اور دور بھی کر دیں اس مصیبت کو جس میں مبتلا ہیں

لَاجْرَائِنَا فِي تَطْغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴿۴۵﴾ وَلَقَدْ أَخَذْنَا مِنْهُم بِالْعَذَابِ فَمَا

پھر بھی وہ بڑھتے جائیں گے اپنی سرکشی میں اندھے بنے ہوئے۔ اور ہم نے پکڑ لیا انہیں عذاب سے پھر

اسْتَكْبَرُوا لِلرَّبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ ﴿۴۶﴾ حَتَّىٰ إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِم بَابًا

بھی وہ نہ جھکے اپنے رب کی بارگاہ میں اور نہ وہ اب گڑگڑا کر (توبہ کرتے) ہیں۔ یہاں تک کہ جب ہم کھول دیں گے ان پر دروازہ

ذَاعَدَابٌ شَدِيدٌ إِذَا هُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ ﴿۴۷﴾ وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ

سخت عذاب والا وہ اس وقت بالکل مایوس ہو جائیں گے۔ اور وہ وہی ہے جس نے بنائے

لَكُمْ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ﴿۴۸﴾ وَهُوَ

تمہارے کان اور آنکھیں اور دل؛ لیکن (ان عظیم نعمتوں پر بھی) تم بہت کم شکر ادا کرتے ہو۔ اور وہ

الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿۴۹﴾ وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي

وہی ہے جس نے پھیلا دیا تمہیں زمین (کے طرف) میں اور (انجام کار) اسی کی جناب میں اکٹھے کئے جاؤ گے۔ اور وہ وہی ہے جو زندہ کرتا ہے

وَيُمِيتُ وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿۵۰﴾ بَلْ

اور مارتا ہے اور اسی کے اختیار میں ہے گردشِ لیل و نہار؛ کیا (اتنا بھی) تم نہیں سمجھتے۔ بلکہ

قَالُوا مِثْلَ مَا قَالَ الْأَوَّلُونَ ﴿۵۱﴾ قَالُوا إِذْ أَمْتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَ

انہوں نے بھی وہی بات کہی جو پہلے (کفار) کہا کرتے تھے۔ انہوں نے کہا: کیا جب ہم مرجائیں گے اور بن جائیں گے خاک اور

عِظَامًا إِنْنا لَمَبْعُوثُونَ ﴿۵۲﴾ لَقَدْ وَعَدْنَا نَحْنُ وَآبَاؤُنَا هَذَا مِنْ

ہڈیاں تو کیا ہمیں پھر اٹھایا جائے گا؟ بلاشبہ یہ وعدہ کیا گیا ہم سے اور ہمارے باپ دادا کے ساتھ بھی آج سے

قَبْلُ إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ﴿۵۳﴾ قُلْ لِّسِنِ الْأَرْضِ وَمَنْ

پہلے (لیکن آج تک پورا نہ ہوا) نہیں ہیں یہ باتیں مگر من گھڑت افسانے پہلے لوگوں کے۔ (اے حبیب!) آپ پوچھئے کس کی ملکیت ہے یہ زمین اور جو کچھ

فِيهَا إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿۸۷﴾ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ ﴿۸۵﴾

اس میں ہے بتاؤ اگر تم جانتے ہو۔ وہ کہیں گے (یہ سب) اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے، آپ فرمائیے پھر کیا تم غور نہیں کرتے۔

قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ﴿۸۸﴾ سَيَقُولُونَ

پوچھئے کون ہے مالک سات آسمانوں کا اور (کون ہے) مالک عرش عظیم کا؟ وہ کہیں گے

لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ ﴿۸۷﴾ قُلْ مَنْ مِنْ بَيْدِهِ مَكْرُوتٌ كُلِّ شَيْءٍ وَ

(یہ سب) اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے؛ آپ فرمائیے تم اس سے کیوں نہیں ڈرتے؟ آپ پوچھئے وہ کون ہے جس کے دست قدرت میں ہر چیز کی کال ملکیت ہے اور

هُوَ يُحْيِيهِ وَيُمِيتُهُ وَإِنْ أَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿۸۸﴾ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ

وہ پناہ دیتا ہے (جسے چاہے) اور پناہ نہیں دی جاسکتی اس کی مرضی کے خلاف (بتاؤ) اگر تم کچھ علم رکھتے ہو وہ کہیں گے یہ اللہ تعالیٰ کی ہی شان ہے؛

قُلْ فَأَنَّى تُسْحَرُونَ ﴿۸۹﴾ بَلْ أَتَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ﴿۹۰﴾

فرمائیے: پھر کیسے تم دھوکہ میں مبتلا ہو جاتے ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم نے پہنچا دیا انہیں حق اور وہ یقیناً جھوٹے ہیں۔

مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهٍ إِذْ أَذْنَبَ كُلُّ

نہیں بنایا اللہ نے کسی کو (اپنا) بیٹا اور نہ ہی اس کے ساتھ ہے کوئی اور خدا ورنہ لے جاتا ہر

إِلَهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَّ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُصِفُونَ ﴿۹۱﴾

خدا ہر اس چیز کو جو اس نے پیدا کی اور ظاہر حاصل کرنے کی کوشش کرتے وہ خدا ایک دوسرے پر؛ پاک ہے اللہ تعالیٰ ان تمام (نازیبا) باتوں سے جو وہ بیان کرتے ہیں

عَلِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَتَعَلَّىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿۹۲﴾ قُلْ رَبِّ إِمَّا

وہ جاننے والا ہے ہر پوشیدہ اور ظاہر کو پس وہ بلند ہے اس شرک سے جو وہ کرتے ہیں۔ آپ دعا مانگئے اے میرے پروردگار! اگر

تُرِيئِي مَا يُوْعَدُونَ ﴿۹۳﴾ رَبِّ فَلَا تَجْعَلْنِي فِي الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿۹۴﴾

تو ضرور مجھے دکھانا چاہتا ہے وہ (عذاب) جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے تو میرے رب! (ازراہ عنایت) مجھے ان ظالموں کے ساتھ نہ کرنا۔

وَأَنَا عَلَىٰ أَنْ تُرِيكَ مَا لَعَدْتَهُمْ لَقَدْ رَوْنُ ﴿۹۵﴾ اِرْدَفِعْ بِالَّتِي هِيَ

اور ہم اس بات پر کہ دکھادیں تجھے وہ عذاب جس کا ہم نے ان سے وعدہ کیا ہے قادر ہیں۔ دور کرو اس چیز سے جو

أَحْسَنُ السَّيِّئَةِ طَحْنُ أَعْمُرُ بِمَا يَصِفُونَ ﴿۹۶﴾ وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ

بہت بہتر ہے برائی کو؛ ہم خوب جانتے ہیں جو باتیں وہ بیان کرتے ہیں۔ اور کہئے میرے رب! میں پناہ

بِكَ مِنْ هَزَاتِ الشَّيْطَانِ ﴿۹۷﴾ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ ﴿۹۸﴾

طلب کرتا ہوں تیری شیطانوں کے وسوسوں سے اور میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں میرے رب اس سے کہ وہ میرے پاس آئیں۔

حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ ۗ لَعَلِّي أَعْمَلُ

یہاں تک کہ جب آئے گی ان میں سے کسی کو موت تو وہ (بصدرست) کہے گا میرے مالک! مجھے (دنیا میں) واپس بھیج دے شاید میں اچھے کام کروں

صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ كَلَّا إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ

اس دنیا میں دوبارہ جا کر جسے میں ایک بار چھوڑ آیا ہوں ایسا نہیں ہو سکتا؛ یہ ایک (لفظ) بات ہے جو وہ کہہ رہا ہے؛ اور ان کے آگے ایک آڑ ہے

إِلَىٰ يَوْمٍ يَبْعَثُونَ ۗ فَإِذَا نَفَخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنسَابَ بَيْنَهُمْ

اس دن تک جب وہ دوبارہ زندہ کئے جائیں گے۔ تو جب صور پھونکا جائے گا تو کوئی رشتہ داریاں نہ رہیں گی ان کے درمیان

يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ ۗ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ

اس روز اور نہ وہ ایک دوسرے کے متعلق پوچھ سکیں گے۔ البتہ جن کے پلڑے بھاری ہوں گے تو وہی لوگ

الْمُفْلِحُونَ ۗ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا

کامیاب و کامران ہوں گے۔ اور جن کے پلڑے ہلکے ہوں گے تو وہی لوگ ہیں جنہوں نے نقصان پہنچایا

أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ ۗ تَلْفَحُ وُجُوهُهُمُ النَّارَ وَهُمْ فِيهَا

اپنے آپ کو، وہ جہنم میں ہمیشہ (جلتے) رہیں گے۔ بری طرح مجلس دے گی ان کے چہروں کو آگ اور وہ اس میں

كُلُّونَ ۗ أَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تَتْلُو عَلَيْهِمْ فَاكُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ ۗ

دانت نکالے ہوں گے (اب منہ کیوں بسورتے ہو؟) کیا ہماری آیتیں نہیں پڑھی جاتی تھیں تمہارے سامنے اور تم انہیں جھٹلایا کرتے تھے

قَالُوا رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ ۗ رَبَّنَا

(معذرت کرتے ہوئے) کہیں گے: اے ہمارے رب! غالب آگئی تھی ہم پر ہماری بدبختی اور ہم کم کردہ راہ لوگ تھے۔ اے ہمارے مالک!

أَخْرَجْنَا مِنْهَا فَاِنَّ عَدْنَا فَاِنَّا ظَالِمُونَ ۗ قَالَ اَخْسَوْا فِيهَا

(ایک ہاں) ہمیں نکال اس سے، پھر اگر ہم نافرمانی کی طرف رجوع کریں تو یقیناً پھر ہم ظالم ہوں گے۔ جو اب ملے گا پھر نکالے ہوئے پڑے رسواں میں

وَلَا تُكَلِّمُونَ ۗ اِنَّهٗ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْ عِبَادِي يَقُولُوْنَ رَبَّنَا

اور مت بولو میزے ساتھ۔ (تمہیں یاد ہے) ایک گروہ میرے بندوں میں سے ایسا تھا جو عرض کیا کرتا تھا اے ہمارے رب!

اٰمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَاَنْتَ خَيْرُ الرَّحِيْمِيْنَ ۗ فَاتَّخَذْنَا مَوَهُمُ

ہم ایمان لے آئے ہیں، سو تو بخش دے ہمیں اور رحم فرما ہم پر اور تو سب سے بہتر رحم فرمانے والا ہے۔ تم نے ان کا مذاق اڑانا شروع

سِحْرِيًّا حَتَّىٰ اَسْوَكُمُ ذِكْرِي وَكُنْتُمْ مِنْهُمْ تَضْحَكُونَ ۗ اِنِّي

کر دیا حتیٰ کہ اس مشغلے نے غافل کر دیا تمہیں میری یاد سے اور تم ان پر قہقہے لگایا کرتے تھے۔ میں نے

جَزِيَّتُهُمُ الْيَوْمَ بِمَا صَبَرُوا ۗ إِنَّهُمْ هُمُ الْفَائِزُونَ ﴿۱۱۱﴾ قُلْ كَمْ

بدلہ دے دیا نہیں آج ان کے صبر کا (ذرا دیکھو) وہی ہیں مراد کو پانے والے - اللہ تعالیٰ فرمائے گا (ذرا تازہ) کتنے

لَبِئْسَتْ فِي الْأَرْضِ عَادَ سِنِينَ ﴿۱۱۲﴾ قَالُوا لَبِئْسَ يَوْمًا ۖ أَوْ بَعْضَ

سال تم زمین میں ٹھہرے رہے؟ کہیں گے ہم ٹھہرے تھے بس ایک دن یا دن کا کچھ

يَوْمٍ فَسَأَلِ الْعَادِيْنَ ﴿۱۱۳﴾ قُلْ إِنْ لَبِئْسَ إِلَّا قَلِيلًا لَّوَأَنَّكُمْ كُنْتُمْ

حصہ آپ پوچھ لیں سال، گننے والوں سے - ارشاد ہوگا تم نہیں ٹھہرے مگر تھوڑا عرصہ، کاش! تم اس (حقیقت) کو

تَعْلَمُونَ ﴿۱۱۴﴾ أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا

(پہلے ہی) جان لیتے - کیا تم نے یہ گمان کر رکھا تھا کہ ہم نے تمہیں بے مقصد پیدا کیا ہے اور تم ہماری طرف نہیں

تُرْجَعُونَ ﴿۱۱۵﴾ فَتَعَلَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ

لوٹائے جاؤ گے - پس بہت بلند ہے اللہ جو بادشاہ حقیقی ہے (بے مقصد تخلیق سے) نہیں کوئی معبود بجز اس کے، وہ مالک

الْعَرْشِ الْكَرِيمِ ﴿۱۱۶﴾ وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ

ہے عزت والے عرش کا - اور جو پوجتا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو جس کی اس کے پاس کوئی

لَهُ بِهِ فَاِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ ﴿۱۱۷﴾ وَ

دلیل نہیں، تو اس کا حساب اس کے رب کے پاس ہے؛ بلاشبہ نہیں کامیاب ہوں گے حق کا انکار کرنے والے - اور

قُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ ﴿۱۱۸﴾

(اے محبوب!) آپ (یوں) عرض کرو میرے رب! بخش دے (میری گنہگارمت کو) اور رحم فرما (ہم سب پر) اور تو سب سے بہتر رحم فرمانے والا ہے۔

سُورَةُ النُّوْرِ ۲۳ مَكَرَّةً ۱۰۲ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

سورۃ النور مدنی ہے اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت ہی مہربان، ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے - اس کی ۶۳ آیات اور ۹ رکوع ہیں

سُورَةٌ أَنْزَلْنَاهَا وَفَرَضْنَاهَا وَأَنْزَلْنَا فِيهَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لَّعَلَّكُمْ

یہ (ایک عظیم الشان) سورۃ ہے جو ہم نے نازل فرمائی ہے اور ہم نے فرض کیا ہے اس (کے احکام) کو اور ہم نے اتاری ہیں اس میں روشن آیتیں تاکہ تم

تَتَذَكَّرُونَ ﴿۱﴾ الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةً

نصیحت قبول کرو - جو عورت بدکار ہو اور جو مرد بدکار ہو تو لگاؤ ہر ایک کو ان دونوں میں سے سو (سو)

جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ

درے اور نہ آئے تمہیں ان دونوں پر (ذرا) رحم اللہ تعالیٰ کے دین کے معاملے میں اگر تم ایمان رکھتے ہو

بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيْشْهَدَ عَدَاِبَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ۲

اللہ تعالیٰ پر اور روزِ آخرت پر، اور جائزے کے مشاہدہ کرے دونوں کی سزا کو اہل ایمان کا ایک گروہ۔

الَّذِينَ لَا يَتَّبِعُونَ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَتَّبِعُهَا إِلَّا

زانی شادی نہیں کرتا مگر زانیہ کے ساتھ یا مشرک کے ساتھ، اور زانیہ نہیں نکاح کرتا اس کے ساتھ

زَانٍ أَوْ مُشْرِكٍ ۳ وَحَرَّمَ ذَٰلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ۳ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ

مگر زانی یا مشرک، اور حرام کر دیا گیا ہے یہ اہل ایمان پر۔ اور وہ لوگ جو تہمت لگاتے ہیں

الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ

پاکدامن عورتوں پر پھر وہ نہ پیش کر سکیں چار گواہ تو لگاؤ ان (تہمت لگانے والوں) کو اسی

جَلْدَةً ۴ وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا ۴ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ۴

درے اور نہ قبول کرنا ان کی کوئی گواہی ہمیشہ کے لئے، اور وہی لوگ فاسق ہیں

إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَٰلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ

مگر (ان میں سے) وہ لوگ جو توبہ کر لیں ایسا بہتان لگانے کے بعد اور اپنی اصلاح کر لیں، تو بیشک اللہ تعالیٰ غفور و

رَحِيمٌ ۵ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا

رحیم ہے۔ اور وہ (خاوند) جو تہمت لگاتے ہیں اپنی بیویوں پر اور نہ ہوں ان کے پاس کوئی گواہ بجز

أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ

اپنے تو ان کی شہادت کا یہ طریقہ ہے کہ وہ خاوند چار مرتبہ گواہی دے کہ بخدا وہ

الصَّادِقِينَ ۶ وَالْخَامِسَةَ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ

(یہ تہمت لگانے میں) سچا ہے۔ اور پانچویں بار یہ کہے اس پر اللہ تعالیٰ کی پھٹکار ہو اگر وہ

مِنَ الْكَاذِبِينَ ۷ وَيَدْرَأُ وَأَعْتَهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَهُ

کذب بیانی کرنے والوں میں سے ہو۔ اور نال سکتی ہے اس عورت سے حد کہ وہ گواہی دے چار مرتبہ

شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ ۸ وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ

اللہ تعالیٰ کی قسم کھا کر کہ وہ (خاوند) جھوٹا ہے اور پانچویں مرتبہ یہ کہے کہ خدا کا غضب

اللَّهُ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ ۹ وَلَا فَضْلُ اللَّهِ

ہو اس پر اگر وہ (خاوند) سچا ہو۔ اور اگر اللہ تعالیٰ کا فضل

عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ ۱۰ إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا

اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی (تو تم بڑی الجھنوں میں پڑ جاتے) اور بیشک اللہ بہت توبہ قبول کر زوالا، بڑا دانا ہے۔ بیشک جنہوں نے

بِالْآفِكِ عَصَبَةٌ مِّنْكُمْ لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَّكُم بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ

جھوٹی تہمت لگائی ہے وہ ایک گروہ ہے تم میں سے؛ تم اسے اپنے لئے برا خیال نہ کرو؛ بلکہ یہ بہتر ہے تمہارے لئے؛

لِكُلِّ أَمْرٍ مِّنْهُمْ مَا كَتَبَ مِنَ الْإِثْمِ وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ

ہر شخص کے لئے اس گروہ میں سے اتنا گناہ ہے جتنا اس نے کیا، اور جس نے سب سے زیادہ حصہ لیا

مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۱۱ لَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ

ان میں سے (تو) اس کے لئے عذاب عظیم ہوگا۔ ایسا کیوں نہ ہوا کہ جب تم نے یہ (اٹواہ) سنی تو گمان کیا ہوتا مؤمن مردوں

وَالْمُؤْمِنَاتُ بَأَنْفُسِهِنَّ خَيْرًا ۱۲ وَقَالُوا هَذَا إِفْكٌ مُّبِينٌ ۱۳ لَوْلَا

اور مؤمن عورتوں نے اپنیوں کے بارے میں نیک گمان اور کہہ دیا ہوتا کہ یہ تو کھلا ہوا بہتان ہے۔ (اگر وہ سچے تھے تو)

جَاءُوا وَعَلَيْهِ بِأَرْبَعَةٍ شُهَدَاءَ ۱۴ فَاذْلَمُوا بِأَنْفُسِهِمْ وَأُولَئِكَ

کیوں نہ پیش کر سکے اس پر چار گواہ، پس جب وہ پیش نہیں کر سکے گواہ (تو معلوم ہو گیا کہ) وہی

عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ ۱۵ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ

ہیں جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک جھوٹے ہیں۔ اور اگر نہ ہوتا اللہ تعالیٰ کا فضل تم پر اور اس کی رحمت

فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ لَسَسْتُمْ فِي مَا أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۱۶

دنیا اور آخرت میں تو پہنچتا تمہیں اس سخن سازی کی وجہ سے سخت عذاب۔

إِذْ تَلْقَوْنَهُ بِالسُّنْتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ

(جب تم ایک دوسرے سے) نقل کرتے تھے اس (بہتان) کو اپنی زبانوں سے اور کہا کرتے تھے اپنے منہوں سے ایسی بات جس کا تمہیں کوئی علم ہی نہ تھا

وَتَحْسَبُونَ هِيَئًا ۱۷ وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ ۱۸ وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ

نیز تم خیال کرتے کہ یہ معمولی بات ہے حالانکہ یہ بات اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت بڑی تھی۔ اور ایسا کیوں نہ ہوا کہ جب تم نے یہ (اٹواہ)

قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَتَّكِمَ بِهَذَا ۱۹ سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ

سنی تو تم نے کہہ دیا ہوتا ہمیں یہ حق نہیں پہنچتا کہ ہم گفتگو کریں اس کے متعلق اے اللہ! تو پاک ہے یہ بہت

عَظِيمٌ ۲۰ يَعِظُكُمُ اللَّهُ أَنْ تَعُودُوا لِمِثْلِهِ أَبَدًا إِنْ كُنْتُمْ

بڑا بہتان ہے۔ نصیحت کرتا ہے تمہیں اللہ تعالیٰ کہ دوبارہ اس قسم کی بات ہرگز نہ کرنا اگر تم

مُؤْمِنِينَ ۱۷ وَيَبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ حَكِيمٌ ۱۸

ایمان دار ہو - اور کھول کر بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ تمہارے لئے (اپنی) آیتیں اور اللہ سب کچھ جاننے والا بڑا دانہ ہے۔

إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ

پیشک جو لوگ یہ پسند کرتے ہیں کہ پھیلے بے حیائی ان لوگوں میں جو ایمان لائے ہیں (تو)

عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ۱۹

ان کے لئے دردناک عذاب ہے دنیا اور آخرت میں؛ اور اللہ تعالیٰ (حقیقت کو) جانتا ہے اور تم نہیں جانتے ہو۔

وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ رءُوفٌ رَحِيمٌ ۲۰

اور اگر نہ ہوتا تم پر اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت اور یہ کہ اللہ تعالیٰ بہت مہربان (اور) رحیم ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوتَ الشَّيْطَانِ وَمَنْ يَتَّبِعْ

(تو تم بھی نہ پیچ سکتے) اے ایمان والو! نہ چلو شیطان کے نقش قدم پر؛ اور جو چلتا ہے

خُطُوتَ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَوْلَا فَضْلُ

شیطان کے نقش قدم پر تو وہ حکم دیتا ہے (اپنے پیروؤں کو) بے حیائی اور ہر برے کام کا؛ اور اگر نہ ہوتا تم پر

اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَلَكِنَّ اللَّهَ

اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت تو نہ پیچ سکتا تم میں سے کوئی بھی ہرگز ہاں اللہ تعالیٰ

يُزَكِّي مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۲۱ وَلَا يَأْتِلُ أُولُو الْفَضْلِ

پاک کرتا ہے جسے چاہتا ہے؛ اور اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا جاننے والا ہے۔ اور نہ قسم کھائیں جو برگزیدہ ہیں

مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُوتُوا أُولَى الْقُرْبَى وَالسَّكِينِ وَالْمُهَاجِرِينَ

تم میں سے اور خوش حال ہیں اس بات پر کہ وہ نہ دیں گے رشتہ داروں کو اور مسکینوں کو اور راہ خدا میں ہجرت

فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۖ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا ۗ أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ

کرنے والوں کو اور چاہئے کہ (یہ لوگ) معاف کر دیں اور درگزر کریں؛ کیا تم پسند نہیں کرتے کہ بخش دے

اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۲۲ إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ

اللہ تعالیٰ تمہیں؛ اور اللہ غفور، رحیم ہے۔ جو لوگ تمہمت لگاتے ہیں پاکدامن عورتوں پر

الْغَفْلَتِ السُّؤْمَنِتِ لِعُنُوفٍ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ

جو انجان ہیں ایمان والیاں ہیں ان پر پھنکار ہے دنیا اور آخرت میں اور ان کے لئے عذاب

عَظِيمٌ ﴿۲۳﴾ يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا

عظیم ہے ، وہ یاد کریں اس دن کو جب گواہی دیں گی ان کے خلاف ان کی زبانیں اور ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں ان اعمال پر جو

كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿۲۴﴾ يَوْمَ مَيِّدٌ يُّوفِّيهِمُ اللَّهُ دِينَهُمُ الْحَقَّ وَيَعْلَمُونَ

وہ کیا کرتے تھے - اس روز پورا پورا دے گا انہیں اللہ تعالیٰ ان کا بدلہ جس کے وہ حقدار ہیں اور وہ جان لیں گے

أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ ﴿۲۵﴾ الْحَيِّثُ لِلْحَيِّثِينَ وَالْحَيِّثُونَ

کہ اللہ تعالیٰ ہی ٹھیک فیصلہ کرنے والا، ہر بات واضح کرنے والا ہے - ناپاک عورتیں ناپاک مردوں کے لئے اور ناپاک مرد

لِلْحَيِّثَاتِ وَالطَّيِّبَاتِ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبَاتِ لِلطَّيِّبَاتِ أُولَئِكَ

ناپاک عورتوں کے لئے ہیں، اور پاک (دائیں) عورتیں پاک (دائیں) مردوں کے لئے اور پاک (دائیں) مرد پاک (دائیں) عورتوں کے لئے ہیں، یہ برابر ہیں

مُبَرَّرُونَ وَمَا يَقُولُونَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ ۖ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ﴿۲۶﴾ يَا أَيُّهَا

ان (تہمتوں) سے جو وہ (ناپاک) لگاتے ہیں ؛ ان کے لئے ہی (اللہ کی) بخشش ہے اور عزت والی روزی ہے - اے

الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْذِنُوا ۚ

ایمان والو ! نہ داخل ہوا کرو (دوسروں کے) گھروں میں اپنے گھروں کے سوا جب تک تم اجازت نہ لے لو اور

تَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿۲۷﴾ فَإِنْ

سلام نہ کرلو ان گھروں میں رہنے والوں پر ؛ یہی بہتر ہے تمہارے لئے شاید تم (اس کی حکمتوں میں) غور و فکر کرو - پھر اگر

لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّىٰ يُؤْذَنَ لَكُمْ ۚ وَإِنْ

نہ پاؤ ان گھروں میں کسی کو (جو تمہیں اجازت دے) تو نہ داخل ہو ان میں یہاں تک کہ اجازت دی جائے تمہیں ، اور اگر

قِيلَ لَكُمْ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا ۚ هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ

کہا جائے تمہیں کہ واپس چلے جاؤ تو واپس چلے جاؤ یہ (طرز معاشرت) بہت پاییزہ ہے تمہارے لئے ؛ اور اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کرتے ہو

عَلَيْكُمْ ﴿۲۸﴾ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ

خوب جاننے والا ہے - کوئی حرج نہیں تم پر اگر تم داخل ہو ایسے گھروں میں جن میں کوئی آباد نہیں ،

فِيهَا مَتَاعٌ لَّكُمْ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ ﴿۲۹﴾ قُلْ

جن میں تمہارا سامان رکھا ہے ؛ اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو - آپ کلمہ سبچے

لِلْمُؤْمِنِينَ يَعْضُوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا أَرْجُلَهُمْ ذَٰلِكَ

مومنوں کو کہ وہ نیچے رکھیں اپنی نگاہیں اور حفاظت کریں اپنی شرمگاہوں کی ؛ یہ (طریقہ)

أَزْكَىٰ لِهَٰطَرَاتِ اللَّهِ خَيْرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ﴿۳۰﴾ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ

بہت پاکیزہ ہے ان کے لئے، بیشک اللہ تعالیٰ خوب آگاہ ہے ان کاموں سے جو وہ کیا کرتے ہیں۔ اور آپ حکم دیجئے ایماندار عورتوں کو

يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ

کہ وہ نیچی رکھا کریں اپنی نگاہیں اور حفاظت کیا کریں اپنی عصمتوں کی اور نہ ظاہر کیا کریں

زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلَا يَضْرِبْنَ بِخُرُجِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ

اپنی آرائش کو مگر جتنا خود بخود نمایاں ہو اس سے اور ڈالے رہیں اپنی اوڑھنیاں اپنے گریبانوں پر

وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ

اور نہ ظاہر ہونے دیں اپنی آرائش کو مگر اپنے شوہروں کے لئے یا اپنے باپوں کے لئے یا اپنے شوہروں کے باپوں کے لئے

بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي

یا اپنے بیٹوں کے لئے یا اپنے خاندانوں کے بیٹوں کے لئے یا اپنے بھائیوں کے لئے یا اپنے چھبوں کے لئے

إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخْوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَاءِ هُنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ

یا اپنے بھانجوں کے لئے یا اپنی ہم مذہب عورتوں پر یا اپنی باندیوں پر یا اپنے لیسے نوکروں پر

أَيْمَانَهُنَّ أَوْ اللَّيْبِ عَنِ الرِّجَالِ وَالزَّيْنُ عَنِ الرِّجَالِ

جو (عورت) کے خواہش مند نہ ہوں یا ان بچوں پر جو (ابھی تک) آگاہ نہیں

عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ

عورتوں کی شرم والی چیزوں پر اور نہ زور سے ماریں اپنے پاؤں (زمین پر) تاکہ معلوم ہو جاوے وہ بناؤ سنگار جو وہ چھپائے

مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿۳۱﴾

ہوئے ہیں؛ اور رجوع کرو اللہ تعالیٰ کی طرف سب کے سب اے ایمان والو! تاکہ تم (دونوں جہانوں میں) باہر ادا ہو جاؤ۔

وَأَتِكُمُ الْآيَاتِي مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ

اور نکاح کر دیا کرو جو بے نکاح ہیں تم میں سے اور جو نیک ہیں تمہارے غلاموں اور کنیزوں میں سے؛

إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿۳۲﴾

اگر وہ تنگدست ہوں (تو فکر نہ کرو) غنی کر دے گا انہیں اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے؛ اور اللہ تعالیٰ وسعت والا ہمدان ہے۔

وَلَيْسَتَعَفِيفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ

اور چاہئے کہ پاکدامن بنے رہیں وہ لوگ جو نہیں پاتے شادی کرنے کی قدرت یہاں تک کہ غنی کر دے انہیں اللہ تعالیٰ

فَضْلُهُ وَالَّذِينَ يَبْتِغُونَ الْكِتَابَ بِمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ

اپنے فضل سے؛ اور جو مکاتب بننا چاہیں تمہارے غلاموں سے تو مکاتب بنا لو انہیں

إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا ۖ وَالَّذِينَ هُمْ مِّنْ قَالِ اللَّهِ الَّذِي أَنْتُمْ وَلَا

اگر تم جانو ان میں کوئی بھلائی اور (زرم کاتبیت ادا کرنے میں) مدد کرو ان کی اللہ تعالیٰ کے مال سے جو اس تمہیں عطا کیا ہے؛ اور نہ

تُكْرِهُوا فَتِيَّتَكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِّبِتُّغُوَاعَرْضِ

مجبور کرو اپنی لونڈیوں کو بدکاری پر اگر وہ پاکدامن رہنا چاہیں تاکہ تم حاصل کرو (اس بدکاری سے)

الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۖ وَمَنْ يُكْرِهِنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِن بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ

دنوی زندگی کا کچھ سامان؛ اور جو (کمینہ نخصلت) مجبور کرتا ہے انہیں (عصمت فروشی پر) تو بیشک اللہ تعالیٰ ان کے مجبور کئے جانے کے بعد

غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۝۳۳ ۖ وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُّبِينَاتٍ وَمَثَلًا مِّن

(ان کی لغزشوں کو) بخشش والا (اور ان پر) رحم فرمانے والا ہے۔ اور ہم نے اتاری ہیں تمہاری طرف روشن آیتیں نیز (ہم نے اتارے ہیں) بعض حالات

الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ وَمَوْعظةً لِّلْمُتَّقِينَ ۝۳۴ ۖ اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ

ان لوگوں کے جو گزر چکے ہیں تم سے پہلے نیز (اتاری ہے) نصیحت پر ہیروزگاروں کے لئے۔ اللہ نور ہے آسمانوں

وَالْأَرْضِ ۖ مِثْلُ نُّورٍ مِّثْلُ نُّورٍ ۖ كَيْسُكُورَةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ ط الْمِصْبَاحُ فِي

اور زمین کا؛ اس کے نور کی مثال ایسی ہے جیسے ایک طاق ہو اس میں چراغ ہو؛ وہ چراغ

رُجَاةٍ ۖ الرَّجَاةُ كَالنَّهْأِ كَوُكْبٍ ۖ دَرِيٌّ يُوقَدُ مِّنْ شَجَرَةٍ مُّبْرَكَةٍ

شیشہ کے (ایک فانوس) میں ہو؛ وہ فانوس گویا ایک ستارہ ہے جو موتی کی طرح چمک رہا ہے جو روشن کیا گیا ہے برکت والے

زَيْتُونَةٍ لَا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ ۖ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ ۖ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ

زیتون کے درخت سے، جو نہ شرقی ہے نہ غربی ہے قریب ہے اس کا تیل روشن ہو جائے اگرچہ اسے

كَأَنَّ نُّورًا عَلَى نُّورٍ ۖ يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَن يَشَاءُ ۖ وَيُضْرَبُ اللَّهُ

آگ نہ چھوئے؛ (یہ) نور ہی نور ہے؛ پہنچا دیتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے نور کی طرف جس کو چاہتا ہے؛ اور بیان فرماتا ہے اللہ تعالیٰ

الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ ۖ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۝۳۵ ۖ فِي بُيُوتِ أَذُن

طرح طرح کی مثالیں لوگوں (کی ہدایت) کے لئے؛ اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے، ان گھروں میں (جن سے متعلق حکم دیا ہے

اللَّهُ أَنْ تَرْفَعَهُ وَيَذْكَرَ فِيهَا اسْمَهُ ۖ لَا يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ

اللہ نے کہ بلند کئے جائیں اور لیا جائے ان میں اللہ تعالیٰ کا نام اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں ان گھروں میں صبح اور

الْأَصَالِ ۳۱ رَجَالٌ لَا تُلْهِهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَ

شام ، وہ (جو) مرد جنہیں غافل نہیں کرتی تجارت اور نہ خرید و فروخت یادِ الہی سے اور

إِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ

نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ دینے سے وہ ڈرتے رہتے ہیں اس دن سے گھبرا جائیں گے جس میں دل

وَالْأَبْصَارُ ۳۲ لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَيَزِيدَهُم مِّنْ

اور آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی تاکہ جزا دے انہیں اللہ تعالیٰ ان کے بہترین اعمال کی اور (اس سے بھی) زیادہ عطا فرمائے انہیں

فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ۖ وَالَّذِينَ كَفَرُوا

اپنے فضل سے ، اور اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے جس کو چاہتا ہے بے حساب - اور جن لوگوں نے کفر کیا

أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيَعٍ يُحْسِبُ الظَّمَانُ مَاءً حَتَّىٰ إِذَا جَاءَهُ

ان کے اعمال ایسے ہیں جیسے چمکتی ہوئی ریت ہو کسی چھیل میدان میں خیال کرتا ہے اسے پیاسا کہ وہ پانی ہے ؛ حتیٰ کہ جب (پینے کے لئے)

لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَوَجَدَ اللَّهُ عِنْدَهُ فَوْقَهُ حِسَابًا وَاللَّهُ سَرِيعُ

اس کے قریب آتا ہے تو اسے کچھ نہیں پاتا اور پاتا ہے اللہ تعالیٰ کو اپنے قریب تو پورا چکا دیا اس نے اس کا حساب ؛ اور اللہ تعالیٰ بہت جلد

الْحِسَابِ ۗ أَوْ كَظُلُمٍ فِي بَحْرٍ لُّجِّيٍّ يَّعْغِشُهُ مَوْجٌ مِّنْ فَوْقِهِ

حساب لینے والا ہے یا (اعمال کفار) ایسے اندھیروں کی طرح ہیں جو گہرے سمندر میں ہوتے ہیں چھاری ہوئی ہے اس پر موج اس کے اوپر

مَوْجٌ مِّنْ فَوْقِهِ سَحَابٌ طَلُمْتُ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ ۗ إِذَا

اک اور موج (اور) اس کے اوپر بادل (تدرت) اندھیرے ہیں ایک دوسرے کے اوپر ؛ جب

أَخْرَجَ يَدَّاهُ لَمْ يَكِدْ يَرِيهَا وَمَنْ لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ

وہ نکالتا ہے اپنا ہاتھ تو نہیں دیکھ پاتا اسے ؛ اور (سچ تو یہ ہے کہ) جس کے لئے اللہ تعالیٰ نور نہ بنائے تو اس کے لئے

مِن نُّورٍ ۗ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ

کہیں نور نہیں - کیا تم غور نہیں کرتے کہ بلاشبہ اللہ ہی ہے جس کی تسبیح بیان کرتے ہیں سارے آسمانوں والے اور زمین والے

وَالطَّيْرِ صَوِّتٌ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ

اور پرندے پر پھیلانے ہوئے ہر ایک جانتا ہے اپنی (مخصوص) دعا اور اپنی تسبیح کو ؛ اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے

بِمَا يَفْعَلُونَ ۗ ۝۳۳ وَبِاللَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ

جو وہ کرتے رہتے ہیں - اور اللہ تعالیٰ کے لئے بادشاہی ہے سارے آسمانوں کی اور ساری زمین کی ، اور اللہ تعالیٰ

۵۵۳ =

الْمَصِيرُ ﴿۲۱﴾ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُزْجِي سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ ثُمَّ

کی طرف ہی (سب نے) لوٹا ہے کیا تم نے غور نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ آہستہ آہستہ لے جاتا ہے ابل کو پھر جوڑتا ہے اس (کے بھرے ہوئے گلوں) کو پھر

يَجْعَلُهُ رُكَامًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خَلْدِهِ وَيَنْزِلُ مِنْ

اسے تہ بہ تہ کر دیتا ہے پھر تو دیکھتا ہے بارش کو کہ نکلتی ہے اس کے درمیان سے، اور اتارتا ہے

السَّمَاءِ مِنْ جِبَالٍ فِيهَا مِنْ بَرَدٍ فَيُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَ

اللہ تعالیٰ آسمان سے برف جو پہاڑوں کی طرح ہوتی ہے پس نقصان پہنچاتا ہے اس سے جسے چاہتا ہے اور

يَصْرِفُ عَنْ مَنْ يَشَاءُ يَكَادُ سُنَّابِرُقٌ يَذْهَبُ بِالْأَبْصَارِ ﴿۲۲﴾

پھیر دیتا ہے اس کو جس سے چاہتا ہے؛ قریب ہے کہ اس کی بجلی کی چمک لے جائے آنکھوں کی بینائی کو۔

يُقَلِّبُ اللَّهُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِّأُولِي الْأَبْصَارِ ﴿۲۳﴾

بدلی کرتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ رات اور دن کی؛ بیشک اس میں عبرت ہے آنکھوں والوں کے لئے۔

وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِنْ مَّاءٍ فَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى بَطْنٍ

اور اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے ہر جانور کو پانی سے، تو ان میں کچھ تو رینگتے ہیں پیٹ کے بل،

وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْنِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى أَرْبَعٍ

اور ان میں سے بعض چلتے ہیں دو ٹانگوں پر، اور ان میں سے بعض چلتے ہیں چار ٹانگوں پر؛

يَخْلُقُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿۲۴﴾ لَقَدْ أَنْزَلْنَا

پیدا فرماتا ہے اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے؛ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ ہم نے اتاری ہیں

آيَاتٍ مُّبِينَاتٍ وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿۲۵﴾

ایسی آیتیں جو (حق کو) صاف صاف بیان کرتی ہیں؛ اور اللہ تعالیٰ پہنچاتا ہے جسے چاہتا ہے سیدھی راہ تک۔

وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّىٰ فِرْقٌ مِنْهُمْ

اور وہ کہتے ہیں ہم ایمان لائے ہیں اللہ تعالیٰ پر اور (اس کے) رسول پر اور ہم فرمانبردار ہیں پھر منہ پھیر لیتا ہے ایک فریق ان سے

مَنْ بَعْدَ ذَلِكَ وَمَا أُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ ﴿۲۶﴾ وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ

(ایمان و اطاعت کے) اس دعویٰ کے بعد؛ اور یہ لوگ ایماندار نہیں ہیں۔ اور جب وہ بلائے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ

وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ مُعْرِضُونَ ﴿۲۷﴾ وَإِنْ يَكُنْ

اور اس کے رسول کی طرف تاکہ فیصلہ کرے ان کے درمیان تو اس وقت ایک جماعت ان میں سے روگردانی کرنے لگتی ہے۔ اور اگر

لَهُمُ الْحَقُّ بِأَنْتَ إِلَيْهِ مِنْ عَيْنٍ ۖ أَنَّى قُلُوبِهِمْ قَرَضُ أَمْرًا تَابُوا أَمْرًا

فیصلان کے حق میں ہونا ہوتا تو (بھاگے) چلے آتے ہیں اس کی طرف تسلیم کرتے ہوئے۔ کیا ان کے دلوں میں (نفاق کی) بیماری ہے یا وہ (اسلام کے متعلق) شک میں مبتلا ہیں یا

يَخَافُونَ أَنْ يَخِيفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ بَلْ أُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

انہیں یہ اندیشہ ہے کہ ظلم کرے گا اللہ تعالیٰ ان پر اور اس کا رسول؛ بلکہ (درحقیقت) وہ خود ظالم ہیں۔

إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيُحْكَمَ بَيْنَهُمْ

ایمانداروں کی بات تو صرف اتنی ہے کہ جب انہیں بلایا جاتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف تاکہ وہ فیصلہ فرمائے ان کے درمیان

أَنْ يَقُولُوا أَسْمَعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْعَلُونَ ۗ وَمَنْ يُطِعِ

تو وہ کہتے ہیں ہم نے فیصلہ سن لیا اور ہم نے اطاعت کی؛ اور یہی لوگ دوڑوں جہانوں میں بامراد ہیں۔ اور جو شخص اطاعت کرتا ہے

اللَّهِ وَرَسُولَهُ وَيَخْشِ اللَّهَ وَيَتَّقَهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ وَأَسْمَاءُ

اللہ کی اور اس کے رسول کی اور فزرتار ہوتا ہے اللہ سے اور بچتا رہتا ہے اس کی (نافرمانی) سے تو یہی لوگ کامیاب ہیں۔ اور تمہیں اٹھاتے ہیں

بِاللَّهِ جَهْدًا أَيْ سَاهِمَةً لِيَنْ أَمْرَهُمْ لِيُخْرِجَنَّ قُلُوبَهُمْ لَأَنْ تَقْسَمُوا طَاعَةَ

اللہ تعالیٰ کی بڑے زور شور سے کہ اگر آپ انہیں حکم دیں تو وہ (گھروں سے بھی) نکل جائیں گے؛ فرمائیے: تمہیں نہ کھاؤ، تمہاری فرمانبرداری

مَعْرُوفَةً إِنَّ اللَّهَ خَيْرٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ ۗ قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا

خوب معلوم ہے؛ یقیناً اللہ تعالیٰ خوب واقف ہے جو کچھ تم کرتے رہتے ہو۔ آپ فرمائیے: اطاعت کرو اللہ تعالیٰ کی اور اطاعت کرو

الرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكُمْ مَاجِدٌ وَعَلَيْكُمْ مَا جُمِلْتُمْ وَإِنْ

رسول (مکرم) کی، پھر اگر تم نے روگردانی کی تو (جان لو) رسول کے ذمہ اتنا ہے جو ان پر لازم کیا گیا اور تمہارے ذمہ ہے جو تم پر لازم کیا گیا؛ اور اگر

تَطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلْغُ الْمُبِينُ ۗ وَعَدَّ اللَّهُ

تم اطاعت کرو گے اس کی تو ہدایت پا جاؤ گے؛ اور نہیں ہے (ہمارے) رسول کے ذمہ بجز اس کے کہ وہ صاف صاف پیغام پہنچائے۔ وعدہ فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے

الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لِيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ

ان لوگوں سے جو ایمان لائے تم میں سے اور نیک عمل کئے کہ وہ ضرور خلیفہ بنائے گا انہیں زمین میں

كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيَسْجُتَنَّ لَهُمْ دِينُهُمُ الَّذِي

جس طرح اس نے خلیفہ بنایا ان کو جو ان سے پہلے تھے اور مستحکم کر دے گا ان کے لئے ان کے دین کو جسے

ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أُمَّتًا يُعْبُدُونَ بِنِي لَأَ

اس نے پسند فرمایا ہے ان کے لئے اور وہ ضرور بدل دے گا انہیں ان کی حالت خوف کو امن سے؛ وہ میری عبادت کرتے ہیں

۴
۱۲

يُشْرِكُونَ بِى شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفٰسِقُونَ ﴿۵۵﴾

کسی کو میرا شریک نہیں بناتے؛ اور جس نے ناشکری کی اس کے بعد تو وہی لوگ نافرمان ہیں۔

وَاقِيمُوا الصَّلٰوةَ وَآتُوا الزَّكٰوةَ وَاطِيعُوا الرَّسُوْلَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ ﴿۵۶﴾

اور صحیح حج ادا کیا کرو نماز اور دیا کرو زکوٰۃ اور اطاعت کرو رسول (پاک) کی تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔

لَا تَحْسِبَنَّ الدِّينَ كَفْرًا وَعَجْزِيْنَ فِي الْاَرْضِ وَمَا وَدَّهْمُ النَّارِطِ

یہ خیال ہر گز نہ کیجئے کہ کفار عاجز کرنے والے ہیں (ہمیں) زمین میں، اور ان کا ٹھکانا آتش (جہنم) ہے؛

وَلِكَيْسَ الْمَصِيْرُ ﴿۵۷﴾ يَا أَيُّهَا الدِّينُ اٰمُوْا لِيَسْتَاذِنَكُمْ الدِّينُ مَلَكَتْ

اور یہ بہت برا ٹھکانا ہے۔ اے ایمان والو! اذن طلب کیا کریں تم سے (گھروں میں داخل ہوتے وقت)

اِيْمَانُكُمْ وَالَّذِيْنَ كَمْ يَبْلُغُوا الْحَلْمَ مِنْكُمْ ثَلَاثُ مَرَّاتٍ مِنْ قَبْلِ

تمہارے غلام اور وہ (لڑکے) جو ابھی جوانی کو نہیں پہنچے تم میں سے تین مرتبہ؛ نماز فجر

صَلٰوةِ الْفَجْرِ وَحِيْنَ تَضَعُوْنَ ثِيَابَكُمْ مِّنَ الطَّهِيْرَةِ وَفِيْ بَعْدِ

سے پہلے اور جب تم اپنے کپڑے اتارتے ہو دوپہر کو اور نماز

صَلٰوةِ الْعِشَاءِ ثَلَاثُ عَوْرَاتٍ لَّكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ

عشاء کے بعد۔ یہ تین پردے کے وقت ہیں تمہارے لئے؛ نہ تم پر اور نہ ان پر

جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ طَوْفُوْنَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ كَذٰلِكَ

کوئی حرج ہے ان اوقات کے علاوہ؛ کثرت سے آنا جانا رہتا ہے تمہارا ایک دوسرے کے پاس؛ یوں صاف صاف

يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ الْاٰيٰتِ وَاللّٰهُ عَلَيْهِ حَكِيْمٌ ﴿۵۸﴾ وَاِذَا بَلَغَ الْاَطْفَالُ

بیان فرماتا ہے اللہ تعالیٰ تمہارے لئے (اپنے) احکام؛ اور اللہ تعالیٰ علیم حکیم ہے۔ اور جب پہنچ جائیں تمہارے بچے

مِنْكُمْ الْحَلْمَ فَلْيَسْتَاذِنُوْا كَمَا اسْتَاذِنَ الدِّينُ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذٰلِكَ

حد بلوغ کو تو وہ بھی اذن طلب کیا کریں جس طرح اذن طلب کیا کرتے ہیں وہ لوگ (جن کا ذکر پہلے ہوا؛ یوں

وَيُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اٰيٰتِهِ وَاللّٰهُ عَلَيْهِ حَكِيْمٌ ﴿۵۹﴾ وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ

صاف صاف بیان فرماتا ہے اللہ تعالیٰ تمہارے لئے اپنے احکام کو؛ اور اللہ تعالیٰ علیم ہے، حکیم ہے۔ اور بوڑھی خانہ نشین عورتیں

الَّتِي لَا يَرْجُوْنَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ اَنْ يَّصْعْنَ

جنہیں آرزو نہ ہو نکاح کی تو ان پر کوئی گناہ نہیں اگر وہ رکھ دیں

ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ ۗ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَّهُنَّ ۗ وَ

اپنے بالائی کپڑے بشرطیکہ وہ نہ ظاہر کرنے والی ہوں (اپنی) آرائش؛ اور ان کا اس سے بھی اجتناب کرنا ان کے لئے بہت بہتر ہے؛ اور

اللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۙ لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَىٰ حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ

اللہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ نہ اندھے پر کوئی حرج ہے اور نہ لنگڑے پر

حَرْجٌ وَلَا عَلَى الرَّيْضِ حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْأَنْفُسِ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ

کوئی حرج ہے اور نہ بیمار پر کوئی حرج ہے اور نہ تم پر اس بات میں کہ تم کھاؤ

بِوَاتِكُمْ أَوْ بِوَاتِكُمْ آبَاؤُكُمْ أَوْ بِيُوتُكُمْ أَمْهُتِكُمْ أَوْ بِوَاتِكُمْ أَوْ

اپنے گھروں سے یا اپنے باپ دادا کے گھروں سے یا اپنی ماؤں کے گھروں سے یا اپنے بھائیوں کے گھروں سے یا

بِوَاتِكُمْ أَوْ بِوَاتِكُمْ أَعْمَامُكُمْ أَوْ بِوَاتِكُمْ عَمَّتِكُمْ أَوْ بِوَاتِكُمْ

اپنی بہنوں کے گھروں سے یا اپنے چچاؤں کے گھروں سے یا اپنی پھوپھیوں کے گھروں سے یا اپنے ماموں کے

أَخْوَالِكُمْ أَوْ بِوَاتِكُمْ خَلَاتِكُمْ أَوْ مَا مَلَكَتْهُنَّ مَفَاتِحُهُنَّ أَوْ صَدِيقِكُمْ ۗ

گھروں سے یا اپنی خالائوں کے گھروں سے یا جن گھروں کی کھچوں کے تم مالک ہو یا اپنے دوست کے گھر سے؛

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَأْكُلُوا جَمِيعًا أَوْ أَشْتَاتًا ۗ فَإِذَا دَخَلْتُمْ

نہیں ہے تم پر کوئی حرج اگر تم کھاؤ سب مل کر یا الگ الگ؛ پھر جب تم داخل ہو

بِوَاتِكُمْ فَسَلِّمُوا عَلَى الْأَنْفُسِ كَمَا تَحِيَّتُ مَنْ عِنْدَ اللَّهِ مُبَرَكََةً طَيِّبَةً ۗ

گھروں میں تو سلامتی کی دعا دو اپنوں کو وہ دعا جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر ہے جو بڑی بابرکت (اور) پاکیزہ ہے؛

كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ۙ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ

یونہی کھول کر بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ تمہارے لئے (اپنے) احکام کو تاکہ تم سمجھ لو۔ بس سچے مومن تو وہ ہیں

الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَىٰ أَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ

جو ایمان لائے ہیں اللہ تعالیٰ پر اور اس کے رسول پر اور جب ہوتے ہیں آپ کے ساتھ کسی اجتماعی کام کے لئے تو

يَذْهَبُوا حَتَّىٰ يَسْتَأْذِنُوا ۗ إِنْ الدِّينَ يَسْتَأْذِنُكَ أَوْلِيكَ

(وہاں سے) چلے نہیں جاتے جب تک کہ آپ سے اجازت نہ لیں؛ بلاشبہ وہ لوگ جو اجازت طلب کرتے ہیں آپ سے یہی وہ

الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ

لوگ ہیں جو ایمان لائے ہیں اللہ کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ، پس جب وہ اجازت مانگیں آپ سے اپنے کسی کام کے لئے

فَاذِن لِّمَن شِئْتَ مِنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

تو اجازت دیجئے ان میں سے جسے آپ چاہیں اور مغفرت طلب کیجئے ان کے لئے اللہ تعالیٰ سے بیشک اللہ تعالیٰ غفور

رحیم ہے۔ نہ بناو رسول کے پکارنے کو آپس میں جیسے تم پکارتے ہو ایک دوسرے کو؛

قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنْكُمْ لِوَاذَاءِ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ

اللہ تعالیٰ اچھی طرح جانتا ہے انہیں جو کھسک جاتے ہیں تم میں سے ایک دوسرے کی آڑ لے کر، پس ڈرنا چاہئے انہیں

يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

جو خلاف ورزی کرتے ہیں رسول کریم ﷺ کے فرمان کی کہ انہیں کوئی مصیبت نہ پہنچے یا انہیں دردناک عذاب نہ آئے۔

الَّذِينَ اللَّهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ قَدْ يَعْلَمُ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ

سن لو! بلاشبہ اللہ تعالیٰ کا ہی ہے جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں ہے؛ وہ خوب جانتا ہے جس حالت پر تم ہو؛

وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

اور اس دن جب وہ لوٹائے جائیں گے اس (کی بارگاہ) کی طرف تو وہ انہیں آگاہ کرے گا جو انہوں نے کیا تھا؛ اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔

سُورَةُ الْفُرْقَانِ ۲۵ مَكِّيَّةٌ ۳۲

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْبَيِّنَاتِ ۴

سورہ الفرقان کی ہے اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت ہی مہربان، ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ اس کی ۷ آیتیں اور ۶ رکوع ہیں

تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ

بڑی (خیر) برکت والا ہے وہ جس نے اتارا ہے الفرقان اپنے (محبوب) بندہ پر تاکہ وہ بن جائے سارے جہان والوں کو (غضب الہی سے)

نَذِيرًا ۱ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا

ڈرانے والا، وہ جس کے لئے حکومت ہے آسمانوں اور زمین کی اور نہیں بنا یا ہے اس نے کسی کو بیٹا

وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَرَهُ

اور نہیں اس کا کوئی شریک سلطنت میں اور اس نے پیدا فرمایا ہے ہر چیز کو پس اس نے مقرر کیا ہے

تَقْدِيرًا ۲ وَاتَّخَذُ وَاوَيْنَ دُونَهُ إِلَهًا لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ

ہر چیز کا ایک اندازہ - اور بنا رکھے ہیں انہوں نے خدائے برحق کو چھوڑ کر ایسے خدا جو پیدا نہیں کر سکتے کسی چیز کو اور وہ

يَخْلُقُونَ وَلَا يَسْتَلِكُونَ لِأَنْفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا

خود پیدا کئے گئے ہیں اور نہیں قدرت رکھتے اپنے آپ کو نقصان (سے بچانے) کی اور نہ نفع پہنچانے کی

وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاةً وَلَا نَشُورًا ۳

اور نہیں طاقت رکھتے کسی کو مارنے کی اور نہ زندہ کرنے کی اور نہ مرنے کے بعد جلانے کی۔ اور

قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا آفَاكُ أَفْتَرِهٖ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ

کہنے لگے کفار کہ نہیں یہ (قرآن) مگر محض بہتان جو گھڑا ہے اس نے اور مدد کی ہے اس کی اس معاملہ میں ایک دوسری

اٰخرون ۴ فَقَدْ جَاءَ وَوٰظِلْمًا وَّزُورًا ۴ وَقَالُوا اَسَاطِيرُ الْاَوَّلِينَ اَلَسْبٰهَآ

قوم نے، سو (یہ کہہ کر) انہوں نے بڑا ظلم کیا ہے اور سفید جھوٹ بولا ہے۔ اور کفار نے کہا یہ تو افسانے ہیں پہلے لوگوں کے اس شخص نے زکھوا لیا ہے انہیں

فَبِمِیْ تَمَلٰی عَلَیْهِ بُكْرَةً وَّاصِيْلًا ۵ قُلْ اَنْزَلَهُ الَّذِیْ یَعْلَمُ السِّرَّ فِی

پھر یہ پڑھ کر سنائے جاتے ہیں اسے ہر صبح و شام (تا کہ ازبر ہو جائیں)۔ آپ فرمائیے: اتارا ہے اس کو اس (خدا) نے جو جانتا ہے

السَّمٰوٰتِ وَاَلْاَرْضِ اِنَّهٗ كَانَ غَفُوْرًا رَّحِیْمًا ۶ وَقَالُوا مَالِ هٰذَا

آسمانوں اور زمین کے سارے رازوں کو؛ واقعی وہ بہت بخشنے والا، ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ اور کفار بولے: کیا ہوا ہے

الرَّسُوْلِ یَاكُلُ الطَّعَامَ وِیَسِیْۤیۡ فِی الْاَسْوَاقِ ۷ لَوْلَا اَنْزَلَ اِلَیْهِ مَلٰٓئِكَةٌ

اس رسول کو کہ کھانا کھاتا ہے اور چلتا پھرتا ہے بازاروں میں؛ ایسا کیوں نہ ہو کہ اتارا جاتا اس کی طرف کوئی فرشتہ

فَیَكُوْنُ مَعَهُ نَذِیْرًا ۸ اَوْ یُلْقٰی اِلَیْهِ كُذْرًا وَّتَكُوْنُ لَهُ جَنَّةٌ یَّاكُلُ

اور وہ اس کے ساتھ مل کر (لوگوں کو) ڈراتا یا (ایسا کیوں نہ ہو) کہ اتارا جاتا اس کی طرف خزانہ یا (کم از کم) اس کا ایک باغ ہی ہوتا کھایا کرتا

مِنْهَا ۹ وَقَالَ الظَّالِمُوْنَ اِنْ تَتَّبِعُوْنَ اِلَّا رَجُلًا مَّسْحُوْرًا ۱۰ اَنْظُرْ كَیْفَ

اس کی آمدنی سے؛ اور ان ظالموں نے (یہاں تک) کہہ دیا کہ تم پیروی نہیں کر رہے ہو مگر ایسے شخص کی جس پر جاو دیا گیا ہے۔ ملاحظہ تو کیجئے کیسے

ضَرَبُوْا لَكَ الْاَمْثَالَ فَضَلُّوْا فَلَا یَسْتَطِیْعُوْنَ سَبِیْلًا ۱۱ تَبٰرَكَ الَّذِیْ

بیان کرتے ہیں آپ کے متعلق طرح طرح کی مثالیں سو وہ (اس بجا دہی کے باعث) گمراہ ہو گئے پس وہ راہ نہیں پاسکتے۔ بڑی (خیر و) برکت والہ ہے اللہ تعالیٰ جو

اِنْ شَاءَ جَعَلَ لَكَ خَیْرًا مِّنْ ذٰلِكَ جَدَّتْ تَجْرِیْ مِنْ تَحْتِهَا

اگر چاہے تو بنا دے آپ کے لئے بہتر اس سے (یعنی ایسے) باغات رواں ہوں جن کے نیچے

الْاَنْهٰرُ وِیَجْعَلُ لَكَ قَصُوْرًا ۱۲ بَلْ كَذَّبُوْا بِالسَّاعَةِ ۱۳ وَاعْتَدْنَا مَنَٰلِیْنَ

نہریں اور بنا دے آپ کے لئے بڑے بڑے محلات۔ بلکہ یہ تو جھٹلاتے ہیں قیامت کو۔ اور ہم نے تیار کر رکھی ہے ان کے لئے

كَذٰبٍ بِالسَّاعَةِ سَعِیْرًا ۱۴ اِذَا رَاَتْهُمْ مِّنْ مَّكٰنٍ بَعِیْدٍ سَمِعُوْا لَهَا

جو جھٹلاتے ہیں قیامت کو بھڑکتی ہوئی آگ۔ جب یہ آگ دیکھے گی انہیں دور سے تو وہ سنیں گے اس کا

تَغِيظًا وَزَفِيرًا ۱۲) وَإِذْ أَلْقَوْنَا مِنْهَا كَانًا ضَيْقًا لِّقَرِينٍ دَعَا هُنَالِكَ

جوش مارنا اور چٹکھڑانا - اور جب انہیں پھینکا جائے گا اس آگ میں کسی تنگ جگہ سے زنجیروں میں جلا کر توپکاریں گے

ثُبُورًا ۱۳) لَا تَدْعُوا الْيَوْمَ ثُبُورًا وَاحِدًا وَاذْعُوا ثُبُورًا كَثِيرًا ۱۴) قُلْ

وہاں موت کو - (کہا جائے گا بد بختو!) نہ مانگو آج ایک موت بلکہ مانگو بہت سی موتیں - ان سے پوچھئے

أَذْكَ خَيْرٌ أَمْ جَنَّةُ الْخُلْدِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ ۖ كَانَتْ لَهُمْ جَزَاءً

(ذرا بتاؤ) یہ بھڑکتی ہوئی آگ بہتر ہے یا دائمی جنت جس کا وعدہ پرہیزگاروں سے کیا گیا ہے؛ ہوگی یہ جنت ان کے اعمال کا صلہ

وَصَيْرًا ۱۵) لَّهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ خُلْدٍ ۖ إِنَّ عَلَىٰ رَبِّكَ وَعْدًا

اور (ان کی زندگی کا) انجام - ان کے لئے اس میں ہر وہ نعمت ہوگی جس کی وہ خواہش کریں گے وہاں ہمیشہ رہیں گے؛ آپ کے رب کے ذمہ وعدہ ہے جس کا

مَسْئُولًا ۱۶) وَيَوْمَ يُحْشَرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَقُولُ

ایفاء لازم ہے - اور اس روز (محشر میں) اللہ انہیں اکٹھا کرے گا اور ان (باطل خداؤں کو) جنہیں یہ پوجتے ہیں اللہ کے سوا تو اللہ پوچھے گا

أَنْتُمْ أَضَلُّكُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ ۱۷) قَالُوا اسْبِحْ بِكَ

(ان معبودوں سے) کیا تم نے گمراہ کیا میرے ان بندوں کو یا وہ خود ہی سیدھی راہ سے بھٹک گئے تھے - وہ کہیں گے: تو پاک ہے

مَا كَانَ يَنْبَغِي لَنَا أَنْ نَتَّخِذَ مِنْ دُونِكَ مِنْ أَوْلِيَاءَ وَلَكِنْ مَتَّعْتَهُمْ

(ہر عیب سے) ہمیں یہ بات زیبا نہ تھی کہ ہم بناتے تیرے سوا کسی غیر کو دوست، لیکن تو نے آرام و آسائش عطا کی انہیں

وَأَبَاءَهُمْ حَتَّىٰ نَسُوا الذِّكْرَ وَكَانُوا قَوْمًا بُورًا ۱۸) فَقَدْ كَذَّبْتُمْ بِمَا

اور ان کے آباء کو یہاں تک کہ انہوں نے بھلا دیا تیری یاد کو، اور (یوں) وہ لوگ تباہ و برباد ہو گئے - (اے کفار) تمہارے معبودوں نے تمہیں جھٹلا دیا جو

تَقُولُونَ ۖ فَمَا سَتَطِيعُونَ صِرَافًا وَلَا نَصْرًا ۚ وَمَنْ يَظْلِمِ مَسْكُومًا

تم کہتے ہو پس اب نہ تم اپنے سے عذاب کو پھیر سکتے ہو اور نہ تمہاری مدد کی جائے گی، اور جس نے ظلم کیا تم میں سے

نُذِقْهُ عَذَابًا كَبِيرًا ۱۹) وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا

تو ہم چکھائیں گے اسے عذاب بڑا - اور نہیں بھیجے ہم نے آپ سے پہلے رسول مگر

أَنَّهُمْ لِيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَشْرَبُونَ فِي الْأَسْوَاقِ ۖ وَجَعَلْنَا

وہ سب کھانا کھایا کرتے اور چلا پھرا کرتے بازاروں میں؛ اور ہم نے بنا دیا

بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً ۖ أَتَصْبِرُونَ ۚ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا ۲۰) ع

تمہیں ایک دوسرے کے لئے آزمائش؛ کیا تم (اس آزمائش میں) صبر کرو گے؟ اور آپ کا رب سب کچھ دیکھ رہا ہے -